



جب بات ہو مقام، معیار زندگی اور رسائی کی تو لیڈز گرین ول کا منفرد فائدہ ہے۔ ریڈو کے آبی راستوں کی نگرانی کے علاوہ کاؤنٹیوں کے جنوب میں سینٹ لارنس دریا اور 1000 جزیرے اور شمال میں عالمی ورثہ جاتی مقام واقع ہیں۔ اس کے وسط میں، لیڈز گرین ول کو جاذب نظر جھیلوں، فرنٹینک آرچ بانوسفیئر ریزرو، ابتدائی گھریلو صنعت، جنگلات اور زرخیز کھیتوں والی جگہ کا فخر حاصل ہے۔

تعطیلات کے لیے جنت اور بلا تردید حکمت عملی پر بننے والا مقام، لیڈز گرین ول صوبہ انتاریو میں نقل و حمل کا گڑھ ہے۔ اس کا رقبہ 3,350 مربع کلو میٹر پر پھیلا ہوا ہے اور

کاروبار اور صنعت کے لیے شاہراہوں 401 اور 416، بنیادی سی این آر لائن، ایک گہرے پانی کی بندرگاہ اور امریکہ جانے والے دو بین الاقوامی پلوں تک قابل رشک رسائی دیتا ہے۔ کاؤنٹیاں ٹورانٹو اور مانٹریال کے وسط میں واقع ہیں۔ بین الاقوامی ہوائی اڈے 30 سے 60 منٹ کے فاصلے پر ہیں۔

لیڈز گرین ول کی حدود میں سینٹ لارنس کالج اور کیمپٹ ول میں گولف یونیورسٹی ہے، اور کنگز ٹن اور اوٹاوا میں یونیورسٹیاں، ایک گھنٹے سے بھی کم کے سفر پر ہیں۔ یہ خطہ ہنر مند کارکنوں اور بالموافقہ نرخوں کا گڑھ ہے۔ بین الاقوامی، قومی، علاقائی اور مقامی کاروبار اور صنعتیں اپنے ملازمین کو بہترین معیار زندگی فراہم کرتے ہیں۔ یہ علاقہ صوبے کی کئی دوسری جگہوں کی نسبت سستا، کم ٹیکس، کم کرایہ اور کم زمینی مالیت رکھتا ہے۔ اس کی حدود میں 10 صف در صف میونسپلٹیاں ہیں اور تین علیحدہ میونسپلٹیاں ہیں جو شہری مراکز سے شروع ہو کر دیہی علاقوں تک براڈ بینڈ کی رسائی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں۔

کل آباد 99,306

جنوری کا اوسط درجہ حرارت 8°C (27°F)

جولائی کا اوسط درجہ حرارت 26°C (70°F)

عام سالانہ رسوب سازی، 784 mm بارش، 198 cm برف

اوسط گھریلو آمدن \$ 71,036

اوسط شرح بے روزگاری 6-7%

ہائی اسکول تک کے تعلیم یافتہ بالغان 32,390

کالج یا یونیورسٹی ڈپلومہ والے بالغان 34,304

دو کمروں کے اپارٹمنٹ کا اوسط ماہانہ کرایہ کا خرچہ \$ 650 - \$ 750

اوسط 3 بیڈروم علیحدہ ہنگلی \$ 241,026

مزید معلومات

32 Wall Street, Suite 300; Brockville, ON K6V4R9 Canada
613-342-3840 ext. 5365 / ann.weir@uclg.on.ca

Ann Weir, معاشی ترقی کا منتظم
لیڈز گرین ول